مناظر اسلام حضرت مولانا

ابُو منظور مُحمّد نظام الدین حنفی قادری مُلتانی

(وزیرآباد ضلع گوجرانوالہ)

- ○ حالاتِ زندگی
- ○ رَدِّ قادیانیت

حالات زندگی:

حضرت مولانا ابوالمنظور محمد نظام الدین ملتانی حنفی قادری سروری قدس سرہ ملتان شریف میں پیدا ہوئے۔ اپنے دور کے باکمال اساتذہ سے تحصیل علم کی۔ دربار شریف حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ کے سجادہ نشین حضرت امیر سلطان قدس سرہ کے دست راست مبارک پر بیعت ہوئے اور تاحیات تحریر و تقریر کے ذریعے مسلک اہل سنت و جماعت کی تبلیغ و حمایت کرتے رہے۔ مناظرہ میں ید طولیٰ رکھتے تھے۔

آپ کی تصانیف پر عموماً اعلان درج ہوتا تھا۔

''اہل اسلام پر واضح ہو کہ اگر آپ کو کوئی وہابی، شیعہ، مرزائی، چکڑالوی ستائے اور چیلنج دے تو فوراً مولانا نظام الدین ملتانی رئیس المناظرین کو بانتظام جلسہ طلب کریں لیکن دس دن پہلے اطلاع دیں۔ ممدوح صاحب ان کے ساتھ ہر وقت مناظرے کے لئے تیار ہیں''۔ آپ بفضلہ تعالیٰ ہر مناظرے میں کامیاب رہتے یہی وجہ تھی کہ مخالفین ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے۔

رد قادیانیت:

رد قادیانیت پر آپ نے ''قہر یزدانی بر قلعہ قادیانی'' تحریر فرمائی۔ یہ کتاب نہایت سہل انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ مرزا کے دعووں کو سوالات کی صورت میں بیان کیا گیا اور ان کے رد کے لئے مختصر اور جامع جوابات دئے گئے ہیں جن کے ذریعے نہ صرف ایک عام شخص مرزا کے کفریہ عقائد سے واقف ہو جاتا ہے بلکہ اسے مرزائیوں سے دفع اور ان کے جھوٹ بے پردہ اٹھانے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔

دیگر تصنیفات:

مولانا محمد نظام الدین ملتانی قدس سرہ نے تصانیف کا بڑا ذخیرہ یادگار چھوڑا لیکن

آپ کے صاحبزادے کاشتکاری میں مصروفیت کی بناء پر آپ کی تصانیف کی اشاعت نہیں کر سکے اس لئے آجکل یہ کتابیں نایاب ہیں۔ آپ کی بعض تصانیف کے نام یہ ہیں۔

١۔ سلطان الفقہ المعروف فتاویٰ نظامیہ، گیارہ حصوں میں ان سوالات کے جوابات مجموعہ ہے جو وقتاً فوقتاً اطراف واکناف سے آپ سے پوچھے گئے۔ بحمدہ تعالیٰ یہ فتاویٰ مکتبہ علویہ رضویہ ڈچکوٹ روڈ لائل پور سے چھپ چکا ہے۔ تکملہ فتاویٰ نظامیہ اس سے الگ ہے۔

٢۔ حقیقت مذہب شیعہ (چار حصے)

٣ اباطیل وہابیہ

٤ النصح والمآرب فی احکام اللحی والشوارب

٥۔ القول الجلی فی رد حسین علی فی کشف المغیبات للنبی ﷺ

٦۔ عقائد علماء دیوبند

٧۔ سیف النعمان علی اہل الطغیان

٨ تحفۃ الناظرین یادگار نظام الدین۔

٩ سلطان التفاسیر (دس پارے)

١٠۔ شرح قصیدہ بردہ شریف

١١۔ جرعۂ غسلین در حلق غیر مقلدین

١٢۔ رسالہ عدم جواز رفع یدین وآمین بالجہر وغیرہ۔

حضرت مولانا نظام الدین ملتانی قدس سرہ کا مولد ومنشا ملتان شریف ہے۔ بعد ازاں وزیر آباد، دروازہ موجدین میں منتقل ہو گئے اور یہیں آپ کا وصال ہوا۔

حضرت مولانا شفیع مدظلہ خطیب اعظم کامونکی مولانا نظام الدین ملتانی سے شاگردوں میں سے ہیں لیکن افسوس کہ کوشش بسیار کے باوجود ان کے تفصیلی حالات و کوائف حاصل نہ ہو سکے۔